

ہے۔ (۳۲)

جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تیز تیز جا رہے ہیں۔ (۳۳)^(۱)
ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، (۳۴) ان پر زلت چھا رہی ہوگی، (۳۵) یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ (۳۴)^(۲)

سورہ نوح کی ہے اور اس میں اٹھائیس آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

یقیناً ہم نے نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کی طرف (۵) بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا دو (اور خیردار کر دو) اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آجائے۔ (۱)^(۱)

يَوْمَ يُرْجَوْنَ مِنَ الْجَبَابِثِ اِيسَارًا كَانَهُمْ اِلَىٰ نُصْبٍ

يُؤَفِّضُونَ ﴿۳۳﴾

خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ رَهَقُوهُمْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانُوْا

يُوْعَدُوْنَ ﴿۳۴﴾



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اِنَّا كَلَّمْنَا نُوْحًا اِلٰی قَوْمِهٖ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ

يَاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱﴾

(۱) اَجْدَاثُ جمع ہے۔ جَدَّتْ کے معنی قبریں۔ نُصِبٌ۔ تھانے، جہاں بتوں کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور بتوں کے معنی میں بھی استعمال ہے۔ یہاں اسی دوسرے معنی میں ہے۔ بتوں کے پجاری، جب سورج طلوع ہوتا تو نہایت تیزی سے اپنے بتوں کی طرف دوڑتے کہ کون پہلے اسے بوسہ دیتا ہے۔ بعض اسے یہاں عَلَمٌ کے معنی میں لیتے ہیں کہ جس طرح میدان جنگ میں فوجی اپنے عَلَمٌ (جھنڈے) کی طرف دوڑتے ہیں۔ اسی طرح قیامت والے دن قبروں سے نہایت برق رفتاری سے نکلیں گے۔ يُوَفِّضُونَ يُسْرِ عَوْنٌ کے معنی میں ہے۔

(۲) جس طرح مجرموں کی آنکھیں جھکی ہوتی ہیں کیونکہ انہیں اپنے کرتوتوں کا علم ہوتا ہے۔

(۳) یعنی سخت زلت انہیں اپنی لپیٹ میں لے رہی ہوگی اور ان کے چہرے مارے خوف کے سیاہ ہوں گے۔ اسی سے عَلَامٌ مُّرَاقِبٌ کی ترکیب ہے، جو قریب البلوغت ہو یعنی غَشِيْبَةُ الْاِحْتِلَامِ۔ (فتح القدير)

(۴) یعنی رسولوں کی زبانی اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے۔

(۵) حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث شفاعت میں ہے کہ یہ پہلے رسول ہیں۔ نیز کہا جاتا ہے کہ انہی کی قوم سے شرک کا آغاز ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔

(۶) قیامت کے دن عذاب یا دنیا میں عذاب آنے سے قبل، جیسے اس قوم پر طوفان آیا۔

(نوح علیہ السلام نے) کہا اے میری قوم! میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔^(۱) (۲)
کہ تم اللہ کی عبادت کرو^(۲) اور اسی سے ڈرو^(۳) اور میرا کہنا مانو۔^(۳) (۳)

تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا۔^(۵) یقیناً اللہ کا وعدہ جب آجاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا^(۴) کاش کہ تمہیں سمجھ ہوتی۔^(۴) (۳)
(نوح علیہ السلام نے) کہا اے میرے پروردگار! میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا ہے۔^(۸) (۵)
مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے

قَالَ يٰ قَوْمِ اِنَّ لَكُمْ نَذِيْرًا مُّبِيْنًا ﴿٧١﴾

اِنَّ اَعْبُدُ وَاللّٰهَ وَالْتَقُوْا وَاَطِيعُوْنَ ﴿٧٢﴾

يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُوَخِّرْكُمْ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٧٣﴾

قَالَ رَبِّ اِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لِيَسْلُوْا وَتَهْتٰوْا ﴿٧٤﴾

فَكَرِهْتُمْ لِذِكْرِيْ اِلَّا فِرًاۗا ﴿٧٥﴾

(۱) اللہ کے عذاب سے، اگر تم ایمان نہ لائے۔ اسی لیے عذاب سے نجات کا نسخہ تمہیں بتلانے آیا ہوں۔ جو آگے بیان ہو رہا ہے۔

(۲) اور شرک چھوڑ دو، صرف اسی ایک کی عبادت کرو۔

(۳) اللہ کی نافرمانیوں سے اجتناب کرو، جن سے تم عذاب الہی کے مستحق قرار پاسکتے ہو۔

(۴) یعنی میں تمہیں جن باتوں کا حکم دوں، اس میں میری اطاعت کرو، اس لیے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول اور اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں۔

(۵) اس کے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ ایمان لانے کی صورت میں تمہاری موت کی جو مدت مقرر ہے، اس کو مؤخر کر کے تمہیں مزید مہلت عمر عطا فرمائے گا اور وہ عذاب تم سے دور کر دے گا جو عدم ایمان کی صورت میں تمہارے لیے مقدر تھا۔ چنانچہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اطاعت، نیکی اور صلہ رومی سے عمر میں حقیقتاً اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث میں بھی ہے: صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيْدُ فِي الْعُمْرِ صِلَةُ رَحْمِيْ اُضَافَةُ عُمْرٍ كَابِعْثٌ هُوَ۔ (ابن کثیر) بعض کہتے ہیں، تاخیر کا مطلب برکت ہے، ایمان سے عمر میں برکت ہوگی۔ ایمان نہیں لاؤ گے تو اس برکت سے محروم رہو گے۔

(۶) بلکہ لامحالہ واقع ہو کر رہتا ہے، اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ ایمان و اطاعت کا راستہ فوراً اپنالو، تاخیر میں خطرہ ہے کہ وعدہ عذاب الہی کی پیٹ میں نہ آجاؤ۔

(۷) یعنی اگر تمہیں علم ہوتا تو تم اسے اپنانے میں جلدی کرتے جس کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں یا اگر تم یہ بات جانتے ہوئے کہ اللہ کا عذاب جب آجاتا ہے تو ملتا نہیں ہے۔

(۸) یعنی تیرے حکم کی تعمیل میں، بغیر کسی کوتاہی کے رات دن میں نے تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچایا ہے۔

لگے۔^(۶)

میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا^(۲) انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں^(۳) اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا^(۴) اور اڑ گئے^(۵) اور بڑا تکبر کیا۔^(۶)

پھر میں نے انہیں آواز بلند بلایا۔^(۸)

اور بیشک میں نے ان سے علانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی۔^(۷)

اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ^(۸) (اور معافی مانگو) وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔^(۹)

وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا۔^(۱۰)

اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا

وَاتَّقِ كَلِمَٰدَٰعُوْثُهُمْ لَعَنُوْهُمۡ لَعَنَآ اَصۡاٰبِعُنَا
فِيۡ اٰذَانِهِمْ وَاَسْتَشۡشَوۡا۟ بَيۡنَا۟ بَهُمْ وَاَصۡرُوۡا
وَاَسۡتَكْبَرُوۡا اسۡتَكْبَارًا ۝

ثُمَّ اِنۡنَا۟ دَعَوۡنُهُمْ جَهَارًا ۝

ثُمَّ اِنۡنَا۟ اَعۡلَنۡتُ لَهُمْ وَاَسۡرَرۡتُ لَهُمْ اِسۡرَارًا ۝

فَقُلۡتُ اسۡتَعۡرِبُوۡا لِكَلِمَٰةٍ اِنۡهٗ كَانَ عَقَابًا ۝

يُرۡسِلُ السَّمَآءَ عَلَيۡكُمْ مِدۡرَآ۟ا ۝

وَيُمۡدِدۡكُمۡ بِاَمْوَالٍ وَّ بَنِيۡنَ وَّ يَجۡعَلُ لَكُمۡ جَنۡدًا

(۱) یعنی میری پکار سے یہ ایمان سے اور زیادہ دور ہو گئے ہیں۔ جب کوئی قوم گمراہی کے آخری کنارے پر پہنچ جائے تو پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے، اسے جتنا اللہ کی طرف بلاؤ، وہ اتنا ہی دور بھاگتی ہے۔

(۲) یعنی ایمان اور اطاعت کی طرف، جو سب مغفرت ہیں۔

(۳) تاکہ میری آواز نہ سن سکیں۔

(۴) تاکہ میرا چہرہ نہ دیکھ سکیں یا اپنے سروں پر کپڑے ڈال لیں تاکہ میرا کلام نہ سن سکیں۔ یہ ان کی طرف سے شدت عداوت کا اور وعظ و نصیحت سے بے نیازی کا اظہار ہے۔ بعض کہتے ہیں، اپنے کو کپڑوں سے ڈھانک لینے کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبران کو پہچان نہ سکے اور انہیں قبولیت دعوت کے لیے مجبور نہ کرے۔

(۵) یعنی کفر پر مصر رہے، اس سے باز نہیں آئے اور توبہ نہیں کی۔

(۶) قبول حق اور امتثال امر سے انہوں نے سخت تکبر کیا۔

(۷) یعنی مختلف انداز اور طریقوں سے انہیں دعوت دی۔ بعض کہتے ہیں کہ اجتماعات اور مجلسوں میں بھی انہیں دعوت دی اور گھروں میں فرداً فرداً بھی تیرا پیغام پہنچایا۔

(۸) یعنی ایمان اور اطاعت کا راستہ اپنالو، اور اپنے رب سے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگ لو۔

(۹) وہ توبہ کرنے والوں کے لیے بڑا رحیم و غفار ہے۔

(۱۰) بعض علماء اسی آیت کی وجہ سے نماز استسقا میں سورہ نوح علیہ السلام کے پڑھنے کو مستحب سمجھتے ہیں۔ مروی ہے کہ

اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔^(۱۲)

تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے۔^(۱۳)

حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا ہے۔^(۱۴)

کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طرح سات آسمان پیدا کر دیئے ہیں۔^(۱۵)

اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا ہے^(۱۶) اور سورج کو

وَيَجْعَلُ لَكُمْ اَنْهَارًا ﴿۱۲﴾

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا ﴿۱۳﴾

وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ﴿۱۴﴾

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ﴿۱۵﴾

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ﴿۱۶﴾

حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایک مرتبہ نماز استسقا کے لیے منبر پر چڑھے تو صرف آیات استغفار (جن میں یہ آیت بھی تھی) پڑھ کر منبر سے اتر آئے۔ اور فرمایا کہ میں نے بارش کو، بارش کے ان راستوں سے طلب کیا ہے جو آسمانوں میں ہیں، جن سے بارش زمین پر اترتی ہے۔ (ابن کثیر) حضرت حسن بصری کے متعلق مروی ہے کہ ان سے آکر کسی نے قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اسے استغفار کی تلقین کی، کسی دوسرے شخص نے فقر و فاقہ کی شکایت کی، اسے بھی انہوں نے یہی نسخہ بتلایا۔ ایک اور شخص نے اپنے باغ کے خشک ہونے کا شکوہ کیا، اسے بھی فرمایا، استغفار کر۔ ایک شخص نے کہا، میرے گھر اولاد نہیں ہوتی، اسے بھی کہا اپنے رب سے استغفار کر۔ کسی نے جب ان سے کہا کہ آپ نے استغفار ہی کی تلقین کیوں کی؟ تو آپ نے یہی آیت تلاوت کر کے فرمایا، کہ میں نے اپنے پاس سے یہ بات نہیں کی، یہ وہ نسخہ ہے جو ان سب باتوں کے لیے اللہ نے بتلایا ہے۔ (ایسر التقاسیر)

(۱) یعنی ایمان و طاعت سے تمہیں اخروی نعمتیں ہی نہیں ملیں گی، بلکہ دنیاوی مال و دولت اور بیٹوں کی کثرت سے بھی نوازے جاؤ گے۔

(۲) وقار، توقیر سے ہے بمعنی عظمت اور رجاخوف کے معنی میں ہے، یعنی جس طرح اس کی عظمت کا حق ہے، تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اور اس کو ایک کیوں نہیں ماننے اور اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟

(۳) پہلے نطفہ، پھر ملتقہ، پھر مضغ، پھر عظام اور لحم اور پھر خلق تام، جیسا کہ سورہ انبیاء، ۵- المؤمنون، ۱۳، اور المؤمن، ۶۷ وغیرہ میں تفصیل گزری۔

(۴) جو اس کی قدرت اور کمال صناعت پر دلالت کرتے اور اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف وہی ایک اللہ ہے۔

(۵) جو روئے زمین کو منور کرنے والا اور اس کے ماتھے کا جھومر ہے۔

وَاللَّهُ أَنْتَبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ بَنَاتًا ۝

لَهُمْ يُعْبِدُونَ فِيهَا وَيُخْرِجُهُمْ إِخْرَاجًا ۝

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۝

لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِيمَا بَجَا ۝

قَالَ نُوحٌ رَبِّ انْتَهَمْ عَصْوِي وَأَتَّبِعْ أَمْرِي لَعَلَّكَ تَرُدُّهُمَ إِلَىٰ مَالِهِ

وَوَلَدَهُ الْإِلْحَسَارًا ۝

روشن چراغ بنایا ہے۔ (۱۶)

اور تم کو زمین سے ایک (خاص اہتمام سے) اگلیا ہے (۲)

(اور پیدا کیا ہے) (۱۷)

پھر تمہیں اسی میں لوٹا لے جائے گا اور (ایک خاص

طریقہ) سے پھر نکالے گا۔ (۱۸) (۳)

اور تمہارے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنا

دیا ہے۔ (۱۹) (۴)

تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو۔ (۲۰) (۵)

نوح (علیہ السلام) نے کہا اے میرے پروردگار! ان

لوگوں نے میری توفارمانی کی (۱) اور ایسوں کی فرمانبرداری

کی جن کے مال و اولاد نے ان کو (یقیناً) نقصان ہی میں

بڑھایا ہے۔ (۲۱) (۷)

(۱) تاکہ اس کی روشنی میں انسان معاش کے لیے، جو انسانوں کی انتہائی ناگزیر ضرورت ہے، کسب و محنت کر سکے۔

(۲) یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو، جنہیں مٹی سے بنایا گیا اور پھر اس میں اللہ نے روح پھونکی۔ یا اگر تمام انسانوں کو مخاطب سمجھا جائے، تو مطلب ہو گا کہ تم جس نطفے سے پیدا ہوتے ہو وہ اسی خوراک سے بنتا ہے جو زمین سے حاصل ہوتی ہے، اس اعتبار سے سب کی پیدائش کی اصل زمین ہی قرار پاتی ہے۔

(۳) یعنی مرکز، پھر اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے اور پھر قیامت والے دن اسی زمین سے تمہیں زندہ کر کے نکالا جائے گا۔

(۴) یعنی اسے فرش کی طرح بچھا دیا ہے، تم اس پر اسی طرح چلتے پھرتے ہو، جیسے اپنے گھر میں بیچھے ہوئے فرش پر چلتے اور اٹھتے بیٹھتے ہو۔

(۵) سُبُلٌ، سَبِيلٌ کی جمع اور فِجَاجٌ، فِجَجٌ (کشادہ راستہ) کی جمع ہے۔ یعنی اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کشادہ راستے بنا دیے ہیں تاکہ انسان آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا سکے۔ اس لیے یہ راستے بھی انسان کی کاروباری اور تمدنی ضرورت ہے، جس کا انتظام کر کے اللہ نے انسانوں پر ایک احسان عظیم کیا ہے۔

(۶) یعنی میری توفارمانی پر اڑے ہوئے ہیں اور میری دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے ہیں۔

(۷) یعنی ان کے اصغر نے اپنے بڑوں اور اصحاب ثروت ہی کی پیروی کی جن کے مال و اولاد نے انہیں دنیا اور آخرت کے خسارے میں ہی بڑھایا ہے۔

وَمَكَرُوا مَكْرًا كَبِيرًا ﴿۲۲﴾

اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا۔^(۱) (۲۲)
اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا
اور نہ ود اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نسر
کو (چھوڑنا)^(۲) (۲۳)

وَقَالُوا لَآئِدَتُّنَّ إِلَهُتَكُمْ وَلَا تَدْرُونَ وَاذْآؤُكُمْ سَوَاعِدٌ
وَلَا يَغُوثٌ وَيَعُوقٌ وَنَسْرٌ ﴿۲۳﴾

اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا^(۳) (الیٰ) تو ان
ظالموں کی گمراہی اور بڑھا۔ (۲۴)

وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴿۲۴﴾

یہ لوگ بہ سبب^(۴) اپنے گناہوں کے ڈبو دیئے گئے اور
جنم میں پہنچا دیئے گئے اور اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار
انہوں نے نہ پایا۔ (۲۵)

مِمَّا خَلَقْتَنَّهُمْ أَغْرَقُوا فَأَنذِرُوا أَنَا لَا أَفَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ
مِمَّن دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ﴿۲۵﴾

اور (حضرت) نوح (علیہ السلام) نے کہا کہ اے میرے

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَآئِدَتُّنَّ عَلَى الْآرْضِ مِنَ الْكٰفِرِينَ بَدِئًا ﴿۲۶﴾

(۱) یہ مکریا فریب کیا تھا؟ بعض کہتے ہیں، ان کا بعض لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے قتل کرنے پر ابھارنا تھا، بعض کہتے ہیں مال و اولاد کی وجہ سے جس فریب نفس کا وہ شکار ہوئے، حتیٰ کہ بعض نے کہا، اگر یہ حق پر نہ ہوتے تو ان کو یہ نعمتیں کیوں میر آتیں؟ اور بعض کے نزدیک ان کے بڑوں کا یہ کہنا تھا کہ تم اپنے معبودوں کی عبادت مت چھوڑنا، بعض کے نزدیک ان کا کفر ہی، بڑا کفر تھا۔

(۲) یہ قوم نوح علیہ السلام کے وہ لوگ تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے اور ان کی اتنی شرت ہوئی کہ عرب میں بھی ان کی پوجا ہوتی رہی۔ چنانچہ وڈومتہ الجندل میں قبیلہ کلب کا، سواع ساحل بحر کے قبیلہ حذیل کا، یغوث سبا کے قریب جرف جلد میں مراد اور بنی غلیف کا، یعوق، ہمدان قبیلے کا اور نسور، حیر قوم کے قبیلہ ذوالکلاع کا معبود رہا۔ (ابن کثیر فتح القدر) یہ پانچوں قوم نوح علیہ السلام کے نیک آدمیوں کے نام تھے، جب یہ مر گئے تو شیطان نے ان کے عقیدت مندوں کو کہا کہ ان کی تصویریں بنا کر تم اپنے گھروں اور دکانوں میں رکھ لو تاکہ ان کی یاد تازہ رہے اور ان کے تصور سے تم بھی ان کی طرح نیکیاں کرتے رہو۔ جب یہ تصویریں بنا کر رکھنے والے فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی نسلوں کو یہ کہہ کر شرک میں ملوث کر دیا کہ تمہارے آباؤ ان کی عبادت کرتے تھے جن کی تصویریں تمہارے گھروں میں لٹک رہی ہیں، چنانچہ انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی۔ (صحیح البخاری، تفسیر مسودۃ نوح)

(۳) اَضَلُّوا کا قائل (مرجع) قوم نوح کے رؤسا ہیں۔ یعنی انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا اس کا مرجع یہی مذکورہ پانچ بت ہیں، اس کا مطلب ہو گا کہ ان کے سبب بہت سے لوگ گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا۔ ﴿رَبِّ اِنَّهُمْ اَضَلُّنَا كَثِيْرًا وَّ اِنَّا لَنُحْسِبُنَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ﴾ (ابراہیم: ۳۶)

(۴) مِمَّا میں مَازَا نَد ہے، مِّنْ حَطِيْبَاتِهِمْ اَي: مِّنْ اَجْلِهَا وَبِسَبَبِهَا اَغْرَقُوْا بِالطُّوفَانَ (فتح القدیر)

پالنے والے! تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سنے والا
نہ چھوڑ۔^(۱) (۲۶)

اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو (یقیناً) یہ تیرے (اور) بندوں
کو (بھی) گمراہ کر دیں گے اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ
کافروں ہی کو جنم دیں گے۔ (۲۷)

اے میرے پروردگار! تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو
ایمان کی حالت میں میرے گھر میں آئے اور تمام مومن
مردوں اور عورتوں کو بخش دے^(۲) اور کافروں کو سوائے
بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا۔^(۳) (۲۸)

سورہ جن کی ہے اور اس میں اٹھائیس آیتیں اور
دو رکوع ہیں۔

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان
نہایت رحم والا ہے۔

(اے محمد ﷺ) آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ
جنوں کی ایک جماعت^(۳) نے (قرآن) سنا اور کہا کہ ہم

إِنَّكَ إِن تَذَرُهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا
كُفَّارًا ۝

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا
بِتَارًا ۝



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ إِنَّهُ اسْمَعَنَّا نَقْرَمِنَ الْجِبِّ فَقَالُوا لَنْ نَسْمَعَهُمَا قُلْنَا حَبَابًا ۝

(۱) یہ بدعا اس وقت کی جب حضرت نوح علیہ السلام ان کے ایمان لانے سے بالکل مایوس ہو گئے اور اللہ نے بھی اطلاع
کردی کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ (ہود ۳۶) دِيَارًا، فَيُنَادُواكَ، فَيُنَادُواكَ کے وزن پر دِيَاوًا ہے۔ واؤ کو یا سے بدل کر
ادغام کر دیا گیا، مَنْ يَسْتَكِنُ الدِّيَارَ مطلب ہے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔

(۲) کافروں کے لیے بدعا کی تو اپنے لیے اور مومنین کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔

(۳) یہ بدعا قیامت تک آنے والے ظالموں کے لیے ہے جس طرح مذکورہ دعا تمام مومن مردوں اور تمام مومن
عورتوں کے لیے ہے۔

(۴) یہ واقعہ سورہ احقاف ۲۹ کے حاشیے پر گزر چکا ہے کہ نبی ﷺ وادی نخلہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ
کچھ جنوں کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے آپ ﷺ کا قرآن سنا۔ جس سے وہ متاثر ہوئے۔ یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ اس وقت
جنوں کا قرآن سننا آپ کے علم میں نہیں آیا، بلکہ وحی کے ذریعے سے آپ کو اس سے آگاہ فرمایا گیا۔